



اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو لے جنت واجب کردی یا اسے جہنم سے آزاد کر دیا

عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس نے اپنی دو بچیاں اٹھا رکھی تھیں میں نے اسے تین کھجوریں کھانے کے لیے دیں اس عورت نے ان میں سے ہر ایک کو ایک کھجور دے دی اور ایک کھجور کو کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف لے گئی اسی اثناء میں اس کی دونوں بیٹیوں نے اس سے کھانے کے لیے مانگا وہ کھجور جسے وہ کھانا چاہتی تھی اس نے اس کو دو حصے کر کے دونوں کو مابین اسے تقسیم کر دیا مجھے اس کے اس عمل نے بہت متاثر کیا میں نے اس کے اس فعل کو رسول اللہ کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو لے جنت واجب کردی یا اسے جہنم سے آزاد کر دیا

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا]

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث بڑوں کی چھوٹوں پر شفقت کی ایک نشانہ راہ پیش کرتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس نے اپنی دو بچیوں کو اٹھا رکھا تھا انہوں نے اس عورت کو تین کھجوریں کھانے کے لیے دیں اس مسکین عورت نے ایک بیٹی کو ایک کھجور دے دی اور دوسری کو دوسری بچہ تیسری کو اٹھا کر وہ کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف لے گئی اسی دوران ان دونوں نے اسے کھانے کے لیے مانگ لیا یعنی یہ دونوں بچیاں اس کھجور کو دیکھ رہی تھیں جسے ان کی ماں نے اٹھایا تھا چنانچہ ماں نے اسے خود لے کھایا بلکہ اس کے دو حصے کر کے ان دونوں کو مابین تقسیم کر دیا یوں ہر بچی نے ڈیڑھ کھجور کھا لی اور ماں نے کچھ بھی نہ کھایا عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس واقعے کو آپ کے سامنے ذکر کیا اور عورت نے جو کچھ کیا تھا اسے آپ کو بتایا نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ: "اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو لے جنت واجب کر دی اور اسے دوزخ سے نجات دے دی" یعنی چونکہ اس نے اس بڑی رحمہندی کا مظاہرہ کیا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لے جنت واجب کر دی

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3133>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

